

# گھر پر مفت COVID-19 ٹیسٹنگ دستیاب ہے

آسٹن پبلک ہیلتھ ان لوگوں کے لئے ٹیسٹنگ فراہم کروا رہا ہے جو کسی ٹیسٹ سائٹ پر جانے کے لئے اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے۔ گھر پر ٹیسٹ کا وقت طے کرنے کے لئے، 512-972-5560 پر کال کریں۔ یہ ٹیسٹنگ مفت ہے۔ آپ سے آپ کے امیگریشن کی حیثیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔

## ٹیسٹ فراہم کرنے کے لئے کون آئے گا؟

- آسٹن پبلک ہیلتھ طبی عملے کا کوئی فرد ٹیسٹ کرنے کے لئے متفقہ تاریخ اور وقت پر آپ کے گھر آئے گا

## جب تک مجھے اپنے ٹیسٹ کے نتائج نہ مل جائیں مجھے کیا کرنا چاہئے؟

- ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ گھر میں ہی رہیں، سوائے طبی سہولیات حاصل کرنے کے۔ اس سے COVID-19 کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملتی ہے اور آپ کی صحت کی حفاظت ہوتی ہے۔

- اپنے آپ کو گھر کے دوسرے افراد سے جتنا ممکن ہو سکے الگ رکھنے رکھیں۔ تمام مشترکہ چیزوں کو صاف اور جراثیم سے پاک رکھیں۔
- اگر آپ کا گھر سے باہر کہیں جانا ضروری ہو تو چہرے کو ڈھانپیں۔

اپائٹمنٹس فی الحال محدود ہیں۔ جیسے جیسے یہ پروگرام بڑھے گا مزید اپائٹمنٹس دستیاب ہو جائیں گی۔

## میں اپائٹمنٹ کیسے بُک کروں؟

- آسٹن پبلک ہیلتھ نرس ہاٹ لائن کو 512-972-5560 پر فون کریں۔ انگریزی کے لئے 1 دبائیں، ہسپانوی کے لئے 2، ویتنامی اور دوسری زبانوں کے لئے 3۔
- ہاٹ لائن اوقات: پیر تا جمعہ صبح 8 بجے تا شام 6 بجے اور ہفتہ صبح 9 بجے تا دوپہر 1 بجے تک۔
- مریض کی معلومات مخفی رکھی جاتی ہیں۔ آپ سے امیگریشن کی حیثیت نہیں پوچھی جائے گی۔

## گھر پر ٹیسٹنگ کسے کروانی چاہئے؟

- جسے بھی آمد و رفت کے مسائل، بنیادی صحت کے مسائل درپیش ہوں یا آسٹن ٹریوس کاؤنٹی کے علاقے میں نقل و حمل کے وسائل سے محروم کوئی بھی شخص

## مجھے گھر پر ٹیسٹ کیوں کروانا چاہئے؟

- اگر آپ گھر سے نکلنے کے لئے بہت بیمار یا کمزور محسوس کر رہے ہیں
- اگر آپ دوسروں کو لوگوں کے رابطے میں کم سے کم آنا چاہتے ہیں جو بیمار ہوسکتے ہیں
- اگر آپ کسی ٹیسٹ سائٹ پر جانے سے قاصر ہیں